

برامپٹن ریجنل کونسلر روینا سینٹوس کو 2021-2022 کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی آن اینٹی ریس ازم اینڈ ایکوٹی میں FCM کی نائب چیئر کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے

برامپٹن، آن (5 اگست 2021) – آج فیڈریشن آف کینیڈین میونسپلٹیز (FCM) نے اعلان کیا ہے کہ برامپٹن ریجنل کونسلر روینا سینٹوس کو FCM کی صدر جوئن وینڈر ہائیڈن کی جانب سے اسٹینڈنگ کمیٹی آن اینٹی ریس ازم اینڈ ایکوٹی 2021-2022 کی وائس چیئر کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے۔

FCM کی اسٹینڈنگ کمیٹی تفصیلی بحث مباحثوں کا اہتمام کرتی ہے اور ترجیحی پالیسیوں اور پروگراموں کے حوالے سے FCM بورڈ کو سفارشات پیش کرتی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو صدر اور نائب صدر کے عہدوں پر ایسے مضبوط قائدین کی ضرورت ہوتی ہے جو کمیٹیوں کے اختیارات سے متعلق امور اور حکمت عملی کے بارے میں بات چیت کے فروغ میں رہنمائی فراہم کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کمیٹی کے تمام ممبران کو مرکوز اور نتیجہ خیز گفتگو میں شریک ہونے کا موقع ملے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے سلسلے میں، ہر کمیٹی سال میں تین مرتبہ میٹنگ کرتی ہے۔

سٹی آف برامپٹن کی توجہ کینیڈا کی میونسپلٹیوں اور ہمارے وفاقی شراکت داروں کے ساتھ شراکت کو مستحکم کرنے پر مرکوز ہے اور وہ برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے بنیادی ترجیحات، جن میں بنیادی انفراسٹرکچر، آب و ہوا میں تبدیلی اور سیلاب سے بچاؤ، کوریڈور میں توسیع، ہورونٹاریو مین سٹریٹ LRT اور کووڈ-19 کا ریلیف شامل ہیں، کی حمایت کرتا رہے گا۔

جون میں، سینٹوس کو ایک سال کی مدت کے لیے فیڈریشن آف کینیڈین میونسپلٹیز بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے دوبارہ منتخب کر لیا گیا تھا۔ وہ FCM اسٹینڈنگ کمیٹی آن انگریزنگ و من پارٹیسپیشن ان میونسپل گورنمنٹ، اسٹینڈنگ کمیٹی آن میونسپل فنانس اینڈ انٹرگورنمنٹل اریجنٹس اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن میونسپل انفراسٹرکچر اینڈ ٹرانسپورٹیشن پالیسی کی بھی رکن ہیں۔

FCM کو 1901 کے بعد آج تک کینیڈا کی میونسپل گورنمنٹ کی قومی آواز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے ممبران میں کینیڈا کے شہروں اور دیہی علاقوں سے لے کر شمالی علاقہ جات کی کمیونٹیز اور 20 صوبائی اور علاقائی میونسپل ایسوسی ایشنز سمیت ہر حجم کی 2,000 سے زیادہ میونسپلٹیز شامل ہیں۔ یہ کینیڈا کے تینوں اطراف سے ساحل کے ساتھ ملحقہ علاقہ جات کی مجموعی طور پر 90 فیصد سے زیادہ آبادی کی نمائندگی کرتی ہے۔ پورے کینیڈا کے میونسپل رہنماء کلیدی مسائل پر FCM کی پالیسی متعین کرنے کے لیے ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں۔

برامپٹن سٹی کونسل کے اقدامات اور کونسل کی مدت کی ترجیحات تینوں اطراف سے ساحل سے ملحقہ کینیڈا کی بہت سی میونسپلٹیوں کے مفادات کی عکاسی کرتی ہیں، جن تنوع کا جشن منانا اور نسل پرستی کے خلاف پالیسی کا نفاذ، قابل استطاعت رہائش، نقل و حمل، ماحولیاتی اقدامات اور معیشت کو بحفاظت دوبارہ شروع کرنے کے لیے کاورباروں اور کمیونٹیوں کو کووڈ-19 کی معاونت۔

اقتباسات

"سٹی آف برامپٹن میں، عوام ہمارے ہر کام کا محور ہوتے ہیں۔ ہم اپنے تمام پروگراموں اور خدمات میں تنوع، انصاف اور شمولیت کو شامل کرنے اور رکاوٹیں ہٹانے کے لیے وقف ہیں، تاکہ ہمارے تمام رہائشیوں کے ساتھ ان کی نسل یا جنس سے بالاتر جائز اور منصفانہ سلوک ہو۔ اسٹینڈنگ کمیٹی آن اینٹی ریس ازم اینڈ ایکوٹی کی وائس چیئر منتخب ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور میں اپنے ملک کے تنوع کو منانے، شمولیت کو فروغ دینے اور کینیڈین میونسپلٹیوں اور وفاقی حکومت کے درمیان مضبوط تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنی ساتھی میونسپلٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرجوش ہوں۔ مسلسل شراکت داری اور اشتراک کے ذریعے، ہم نسل پرستی سے لڑ سکتے ہیں، رکاوٹیں ہٹا سکتے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے ایک زیادہ منصفانہ ملک بنا سکتے ہیں اور پورے کینیڈا میں نقل و حمل اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5، سٹی آف برامپٹن؛ ممبر، FCM بورڈ آف ڈائریکٹرز

"تمام حکومتی درجات کے درمیان اشتراک برامپٹن کے رہائشیوں اور ہمارے ملک میں ہر شخص کے لیے نتائج کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ کونسل کی جانب سے، مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ کونسلر سینٹوس – نسل پرستی کی ایک پرجوش مخالف اور انصاف کی وکیل، جو ہمارے رہائشیوں کے لیے نتائج کے حاصل کرنے کے لیے وقف ہیں – کو اسٹیٹنگ کمیٹی آن اینٹی ریس ازم اینڈ ایکوٹیٹی کی وائس چیئر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس کام کو جاری رکھیں گی جو ہمارا شہر رکاوٹوں کی شناخت کرنے اور انہیں ہٹانے کے لیے کرتا رہا ہے – جیسے کہ ہمارے ملازمین اور شہریوں کی خدمت کے لیے ایک ایکوٹیٹی آفس کی بنیاد رکھنا اور سٹی کی سب سے پہلی اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کا آغاز – اور ذرائع نقل و حمل، کووڈ-19 سے بحالی میں معاونت اور برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے اہم دیگر مسائل پر نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمارے وفاقی شراکت داروں کے ساتھ اشتراک سے کام کریں گی۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

پربجوت کینتھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca